

## سٹی آف برامپٹن نے کونسل کی مدت کی ترجیحات کی شہ سرخیاں جاری کر دی ہیں اور کونسل نے -2021 2022 کے لیے 16 کلیدی ترجیحات پر خصوصی توجہ دینے کی منظوری دے دی ہے

برامپٹن، آن (28 جنوری 2021) – کل سٹی آف برامپٹن نے 2020 کے دوران کونسل کی مدت برائے 2018-2022 کی ترجیحات پر ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے ایک اپ ڈیٹ جاری کی ہے، جس میں عالمی وباء کے دوران گذشتہ سال کی اپنی کلیدی کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

میئر اور کونسل ممبران کے ساتھ منعقد کیے جانے والے انٹرویوز، اعلیٰ قیادت کی جانب سے موصول ہونے والی فیڈبیک اور نومبر 2020 میں کونسل ورکشاپ کے دوران منعقد کی جانے والی پولنگ کے نتائج کو مدنظر رکھتے ہوئے کونسل نے کمیونٹی کو بہترین معاونت فراہم کرنے کے لیے [16 ترجیحات](#) (صفحہ 162) کو کل اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرنے کی منظوری دی ہے۔ ترجیحات کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: بین الحکومتی/معاونتی ترجیحات؛ اور سٹی کے زیر اختیار/قابو ترجیحات؛ جو تمام برامپٹن کی حکمت عملی کی متعین شدہ سمت کی معاونت کے لیے جاری رہیں گی۔

کووڈ-19 نے کچھ ایسے غیر متوقع حالات اور چیلنجز پیدا کیے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے ہمارے عملے کو تیزی سے مطابقت پیدا کرنے اور انہیں پروگراموں اور سروسز میں منتقل کرنے کی ضرورت ہو گی۔ اس کے باوجود، سٹی نے کلیدی شعبوں میں اپنی پیش رفت جاری رکھی، جبکہ کووڈ-19 کے خلاف ردعمل اور بحالی کے کاموں میں بھی توازن کو برقرار رکھا گیا:

### برامپٹن مواقع کا ایک شہر ہے

سٹی آف برامپٹن نے حالات کو بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اور کاروباروں کو معاونتوں کی فراہمی جاری ہے:

- چھوٹے کاروباروں کو گرانٹ کی مد میں \$233,000 فراہم کرنا
- 5,000 شرکاء کو 137 ورچوئل تقریبات اور سیمینارز کے ذریعے مصروف عمل رکھنا
- کلینٹس کو 1,043 مشاورتوں کی فراہمی، بشمول برامپٹن انٹرپرائز سنٹر کی مدد سے 38 نئے کاروباروں کی تخلیق اور 82 کاروباروں میں توسیع کا عمل۔
- ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں معاشی سرگرمیوں میں اضافے کے لیے انویسٹمنٹ ڈسٹرکٹ میں چار نئے شراکت داروں کو متعارف کرانا

### برامپٹن ایک گلدستے کی مانند ہے

برامپٹن اپنے تنوع کی خوشیاں منانا جاری رکھے ہوئے ہے اور کمیونٹی کی شمولیت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے:

- ایڈوانس برامپٹن فنڈ میں \$435,561 کی سرمایہ کاری، غیر منافع بخش تنظیموں کے ڈیجیٹل پروجیکٹس کی معاونت کرنا
- بلیک افریقن اینڈ نان کیریبین سوشل، کلچرل اینڈ اکنامک ایمپاورمنٹ اور اینٹی بلیک ریس ازم یونٹ کا قیام 2021 میں ایک ایکویٹی آفس کا قیام جس کی توجہ جائے کار اور کمیونٹی میں موجود رکاوٹوں کی نشاندہی کرنا اور ان کا انسداد ہے
- سیاہ فام کمیونٹی کے لیے فائر سروسز سنٹر میں کیریئر کے حوالے سے معلوماتی نشستوں کا انعقاد کرنا جس میں 900 ریکارڈ شرکاء نے شرکت کی
- تحفظ اور شمولیت کے مقصد کے لیے، سٹی کے دو پارکس یعنی پریل لیلیک میموریل پارک اور ایمینسپیش پارک کے نام تبدیل کرنا۔

### برامپٹن ایک گرین سٹی ہے

سٹی نے جدت، توانائی کی استعداد، عوامی نقل و حمل کے ذرائع اور قدرتی خالی جگہوں کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں:

- اپنے پہلے بیک یار ڈ گارڈن پروگرام کا آغاز کیا، جس کی جانب 6,000 سے زیادہ شرکاء راغب ہوئے اور انہوں نے 10,000 پاؤنڈ غذائی اشیاء پیدا کیں اور انہیں فوڈ بینکس کو عطیہ کیا

- گرین ہاؤس گیسوں میں کمی لانے کے لیے ایک کمیونٹی انرجی اینڈ ایمیشنز ریڈکشن پلان کو متعارف کرایا
- نقل و حمل کے پروجیکٹس کی مالی معاونت کے لیے \$83.1 ملین حاصل کیے؛ اور سیلابی پانی کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اپنے رور واک پروجیکٹ کے لیے \$38 حاصل کیے
- ٹرانزٹ کی تیسری سہولت کے لیے منصوبہ جات کی منظوری، جو نقل و حمل و ذخیرہ کی سہولیات کے لیے مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی ایک سہولت گاہ ہو گی

### برامپٹن ایک صحت بخش اور محفوظ شہر ہے

سٹی نے کمیونٹی کی سیفٹی پر توجہ، ذہنی صحت کی معاونت میں بہتری اور ایک فعال و صحت بخش طرز زندگی کی حوصلہ افزائی میں مدد کی:

- پورے برامپٹن کے کمیونٹی سیفٹی زونز میں 26 عدد آٹومیٹڈ سپیڈ انفورسمنٹ کیمروں کی تنصیب
- چار عدد نئے ان ڈور اسکیننگ رنکس کا قیام تاکہ سردیوں کے موسم میں رہائشی محفوظ طور پر چست و فعال رہیں
- چستی کی سہولت گاہوں مثلاً تفریحی مراکز، پارکس اور فیلڈز وغیرہ میں اضافی سہولیات کی تکمیل
- شہر میں نقل و حمل کے فعال ذرائع کو فروغ دینے کے لیے 26 کلومیٹر بانیک لین کی تعمیر

### برامپٹن بہترین طرز حکمرانی کا حامل شہر ہے

سٹی آف برامپٹن نے سروس کے معیار میں بہتری کا عمل جاری رکھا ہوا ہے اور عالمی وباء کے دوران بھی اس کا انتظام بہترین طریقے سے چلایا گیا ہے:

- مسلسل تین سال تک ٹیکسوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور قومی ذخائر میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جبکہ ریٹائریوں کو بہترین کلیدی سروسز کی فراہمی بھی جاری رہی ہے
- سٹی کی AAA کریڈٹ ریٹنگ کو برقرار رکھا گیا ہے، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے جو کسی بھی میونسپلٹی کو بہترین معاشی سرگرمیوں کی بناء پر ملتا ہے
- موبی انسپیکٹ (Mobi Inspect) ایپ، جو سہولت گاہوں کی نگرانی کرتی ہے، کو اول وقت میں زیر استعمال لایا گیا ہے
- \$34.9 ملین (مرحلہ 1 سیف ری سٹارٹ پروگرام)، \$27.5 ملین (مرحلہ 2 سیف ری سٹارٹ پروگرام) اور \$0.6 ملین (میونسپل ٹرانزٹ انہانسٹ کلیننگ فنڈ) کی حمایت اور حصول
- فروبز (Forbes) کی جانب سے کینیڈا کے بہترین آجر ہونے کا اعزاز حاصل کرنا، جس میں پورے ملک کے چوٹی کے 300 آجرین شامل ہوتے ہیں

کونسل کی مدت کی ترجیحات برائے 2020 کی کامیابیوں اور شہ سرخیوں کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، ملاحظہ کریں [www.brampton.ca/tocp](http://www.brampton.ca/tocp)

### اقتباسات

"مجھے اپنی کونسل کی مدت کی ترجیحات کی شہ سرخیاں اور نتائج، جو ہم نے 2020 میں بطور ٹیم حاصل کیے ہیں، پیش کرنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ عالمی وباء کے پھوٹ پڑنے پر، سٹی کی اولین توجہ اپنی کمیونٹی کی معاونت پر مرکوز رہی ہے۔ اس دوران ہم نے اپنی موجودہ 51 ترغیبات، 22 ترجیحات اور کونسل کی 20 اضافی ترغیبات پر اپنے اس اہم کام کے سلسلے کو بھی جاری رکھا۔ اب جبکہ ہم 2021 میں قدم رکھ چکے ہیں، ہماری کونسل نے 2021-2022 کے لیے 16 ترجیحات پر اپنی توجہ کو زیادہ مرکوز کر لیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے اہم معاملات پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"کووڈ-19 کی وجہ سے ہم نے 2020 میں انتہائی مشکل وقت کا سامنا کیا ہے اور سٹی کے عملہ نے شہریوں، کاروباری اداروں اور کمیونٹی گروپس کی معاونت کے لیے انتہائی جانفشانی سے کام کیا ہے۔ کونسل کی مدت کی ترجیحات کے حصول کے لیے، عالمی وباء کے دوران بھی ہماری ٹیم نے سٹی کی سروسز کی فراہمی کے عمل کو انتہائی مؤثر طریقے سے جاری رکھا۔ مجھے اپنی ٹیم کی 2020 کی کامیابیاں شیئر کرنے پر فخر محسوس ہو رہا ہے اور کونسل کی وسط مدتی تجدید کے طور پر 16 کلیدی ترجیحات پر اپنی توجہ مرکوز کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ برامپٹن کی ٹیم کی توجہ اپنی کمیونٹی کو بہترین سروسز کی فراہمی پر مرکوز ہے۔"

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

**میڈیا کنٹیکٹ**

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)